

5287 - کیا بیوی کے ساتھ سونا سوتے وقت وضوء کے متعارض ہے

سوال

سونے سے قبل وضوء کرنا سنت ہے ، خاوند اور بیوی جو کہ ایک ہی بستر پر سوئیں ان کے بارہ میں میرے خیال میں یہ سنت نہیں ہے ، اس بارہ میں میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

بلکہ ایسا کرنا سنت ہے جس پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں :

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا :

(جب تم اپنے بستر پر آؤ یا پھر تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو تیس 33 بار اللہ اکبر ، تیس 33 بار سبحان اللہ ، تیس 33 بار الحمد لله کہو) صحیح بخاری حدیث نمبر (2945) صحیح مسلم حدیث نمبر (2727) ۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ :

فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم اپنے بستر میں لیٹ چکے تھے ، میں نے اٹھنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دونوں ہی اپنی جگہ پر رہو ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (3502) ۔

تو اس حدیث کا منطوق صریح ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خاوند اور بیوی کا ایک ہی بستر میں سونا سنت ہے ، ہوسکتا ہے کہ سائل کے ذہن میں جواشکال پیدا ہوا ہے وہ اس طرح ہو کہ جب مرد وضوء کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اور اس کی بیوی ایک ہی بستر میں سوئیں تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگنا ضروری ہے جس سے وضوء ختم ہو جائے گا ، تو پھر اس وقت وضوء کا کوئی فائدہ نہ ہوا ۔

تو اب عورت کو چھونے سے وضوء ٹوٹتا ہے کہ نہیں اس مسئلہ کو پیش کرنا چاہیے ؟

اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے اور اس میں کئی ایک اقوال ہیں ، اور اس میں سبب اختلاف آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے :

فرمان باری تعالیٰ ہے :

یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرلو النساء (43) -

اہل علم میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر ملامسہ سے مراد ہاتھ سے خاص ہے ، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ملامسہ سے مراد ہم بستری اور جماع ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے :

پھر تم انہیں چھونے سے قبل ہی طلاق دے دو

اور ایک جگہ پر اس طرح فرمایا :

اگر تم انہیں چھونے سے قبل ہی طلاق دے دو -

اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عورت کو طلاق دی جائے تو اسے پورا مہر چھونے سے واجب نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ جماع اور دخول کرنے سے مکمل مہر واجب ہوگا -

علی بن ابی طالب ، ابی بن کعب ، ابن عباس ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مجاہد ، طاووس ، حسن ، عبید بن عمیر ، سعید بن جبیر ، امام شعبی ، قتادہ ، مقاتل بن حیان ، اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ سب سے یہی قول مروی ہے -

دیکھیں : نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام تالیف نواب صدیق حسن خان (1 / 314 - 316) -

دلیل کے اعتبار سے بھی راجح آخری قول ہی ہے ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور پھر بوسہ لینے کے بعد وضوء کیے بغیر ہی نماز پڑھتے لیتے تھے - دیکھیں نصب الرایۃ (1 / 72) نیل المرام تالیف نواب صدیق حسن خان (حاشیہ 318 - 322) -

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ :

میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوجاتی تھی اور میری ٹانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ میں ہوتی تھیں ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنا ہوتا تو مجھے ہاتھ لگاتے تو میں اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لیتی ، اور جب وہ قیام میں کھڑے ہو جاتے تو میں پھر لمبی کر لیتی -

وہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے - صحیح بخاری (1 / 588) حدیث نمبر (513) -

تویہ دونوں حدیثیں اس پر نص ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے اور اس کی وجہ سے وضوء کی تجدید نہیں کرتے تھے ، اور پھر انہوں نے دوران نماز بھی چھویا تو اس طرح سنت نبویہ جو کہ کتاب اللہ کی شرح اور بیان و تفسیر ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ صرف عورت کوچھولینے سے وضوء نہیں ٹوٹتا ، لیکن اگرچھونے سے مذی یا منی کا اخراج ہوجائے تو پھر وضوء ٹوٹ جائے گا -

جب سائل نے اس مسئلہ میں راجح چیز کوجان لیا ہے تو پھر ان شاء اللہ اشکال بھی جاتا رہا اور وہ حیرانی کے چکروں میں سے بھی نکل جائے گا ، اللہ تعالیٰ ہی مدد گار ہے -

واللہ اعلم .